

# اپنے NY 529 ڈائریکٹ پلان اکاؤنٹ میں آن لائن ڈپازٹ کرنے کا طریقہ

اگر آپ کا NY 529 ڈائریکٹ پلان اکاؤنٹ ہے، تو آپ [nysaves.org](http://nysaves.org) پر اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کر کے آسانی سے آن لائن ڈپازٹ کر سکتے ہیں۔ شروعات کرنے سے پہلے جاننے کی کچھ چیزیں پیش ہیں:

**وقت کا تقاضا: تقریباً 15 منٹس**

**جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوگی:**

- ➔ آپ کے [nysaves.org](http://nysaves.org) کا صارف نام اور پاس ورڈ۔
- ➔ آپ کے اکاؤنٹ سے وابستہ سیل فون، دو عنصر کی توثیق کے لیے۔
- ➔ اس بینک اکاؤنٹ کے لئے روٹنگ نمبر اور اکاؤنٹ نمبر درج کریں جس سے آپ ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں۔

**آن لائن ڈپازٹس سے متعلق اہم معلومات:**

- ➔ 529 سرمایہ کاری کے پلانز میں ڈپازٹ کرنے کو "چندہ" کہا جاتا ہے۔
- ➔ آن لائن چندہ دینے کے لیے کم سے کم درکار \$1 ہے۔
- ➔ اپنے NY 529 ڈائریکٹ پلان اکاؤنٹ میں آن لائن چندہ دینے کے لیے آپ کو ایک درست U.S. چیکنگ یا بچت اکاؤنٹ کی ضرورت ہوگی۔
- ➔ آپ ذاتی چیک یا منی آرڈر کے ذریعہ بھی چندہ دے سکتے ہیں۔ ہدایات کے لیے اپنے NY 529 ڈائریکٹ پلان اکاؤنٹ میں چیک یا منی آرڈر ڈپازٹ کرنے کا طریقہ دیکھیں
- ➔ آپ کا 529 اکاؤنٹ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے لنک کردہ چیکنگ یا سیونگ اکاؤنٹ سے رقم نہیں لے سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ مکرر بار چندہ دینے کو فعال کرتے ہیں تو، آپ ہمیشہ اس بات پر قائم رہیں گے کہ آپ کے 529 اکاؤنٹ میں پیسہ کیسے اور کب ٹرانسفر کیا جائے۔
- ➔ آپ ایک بار یا کئی بار چندہ دینے کا انتخاب کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ڈپازٹ جو ہر ماہ یا ہر تین ماہ میں خود بخود دہرایا جاتا ہے وہ اس پر منحصر ہوتا ہے جو آپ خود منتخب کرتے ہیں۔ اسے خودکار سرمایہ کاری کا پلان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔
- ➔ اگر آپ خودکار سرمایہ کاری کا پلان بنانے کا انتخاب کرتے ہیں تو، آپ [nysaves.org](http://nysaves.org) میں ہمیشہ فائدہ اٹھانے والے کی تفصیلات کے صفحے پر جاکر اور "مکرر بار چندہ دینے کا انتظام کریں" کو منتخب کر کے اپنے خود بخود ڈپازٹ کو تبدیل یا منسوخ کر سکتے ہیں۔
- ➔ مزید جاننے کے لیے، "نیویارک کے 529 کالج بچت پروگرام (New York's 529 College Savings Program) سے 877-697-2837 پر رابطہ کریں۔

NYC Kids RISE کالج کے لئے بچت پروگرام اسکالرشپ اور بچت کا ایک پروگرام ہے جس کو NYC Kids RISE Inc جو ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے NYC محکمہ تعلیم (Department of Education) اور سٹی آف نیو یارک کی شراکت سے منظم کرتی ہے۔ NYC Kids RISE نیویارک کے 529 کالج بچت پروگرام (529 College Savings Program) سے نہ ہی منسلک ہے اور نہ ہی اس کا مجاز تقسیم کنندہ ہے اور سرمایہ کاریوں کی سفارش کرتا اور نہ ہی سرمایہ کاری کا مشورہ دیتا ہے۔ نیو یارک شہر اور NYC محکمہ تعلیم NY 529 پروگرام منیجر اور کالج کے لیے کسی بھی مخصوص بچت یا دیگر سرمایہ کاری کے ذرائع، بشمول جن کے بارے میں خاندانوں کو کالج کے لئے بچت پروگرام کے ذریعے پتہ چلے، کے بارے میں کوئی تصدیق یا سفارش نہیں کرتے اور نہ ہی وہ ان کے قابو، ملکیت یا الحاق میں ہیں۔